

شرح كتاب التمام في أحاديث الأحكام

للشيخ العافظ فيصل علي مودنفي

تفريغ الدرس الثالث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tumweebaza اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى olwe byeengera ebiyitirivu by'atuwa اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى omuli ekyeengera ekikulu eky'okuba nti tuli basiraamu, tumusaba اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى akitukuumire era akituweere abaana n'abazzukulu n'abaliddawo.

Ekyeengera eky'obulamu kyeengera kikulu nnyo nnyini ddala, tusaba nakyo Ow'ekitiibwa اللَّهُ اَبَعْرَا نْغَا اَتُوْوَا اَكُوْتَعُغِيْرَا اْمَاكُوْلُو گَاَاكُو تُوكِيكُوْلِيْرِيْمُو اَبُوُو بُوِيْنْيِيْنِي اَبِيْسَاَانِيْدِي, n'ebyeengera ebirala;

﴿...وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَهَا...﴾

Bwetusalawo kuba nti tubala kyeengera ku kyengera tetusobola kuba nti tubimalayo wabula

byonna awamu tumweebaza اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى kubyo.

Tumusaba مُحَمَّدٌ ﷺ ne ku bantu b'enjuuye neba swahaababe n'abakkiriza bonna okutuukira ddala ku lunaku olw'okuzuukira.

Mbadde nsaba بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى mu kaseera kano kennyini batusomere okuva ku hadith esooka okutuuka ku hadith jetuyina okuba nti tutaandikirako olunaku olwa leero.

الحمد لله نحمده و نصلي على رسوله الكريم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِشَيْخِنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

كُتَابُ الطَّهَارَةِ.

باب المياه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَحْرِ: ((هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّهٖ ابْنُ خُرَيْمَةَ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنْ الْمَاءُ طَهُورٌ، لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ)) أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّهٖ أَحْمَدُ.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنْ الْمَاءُ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ)) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَضَعَفَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَالْبَيْهَقِيُّ: ((إِنْ الْمَاءُ طَاهِرٌ، إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ)).

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبْثَ))، وَفِي لَفْظٍ: ((لَمْ يَنْجُسْ))، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّهٖ ابْنُ خُرَيْمَةَ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنْبٌ)) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَالْبُخَارِيُّ: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)).

وَالْمُسْلِمِيُّ: (مِنْهُ)، وَ لِأَبِي دَاوُدَ: ((وَ لَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ)).

وَعَنْ رَجُلٍ صَحَبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (نَبِيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَ لِيُغْتَرِفَا جَمِيعًا). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ، وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا، فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ)) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ.

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم.

Hadith ezo ssatu nga webazitusomedde, era nga bwetugenda okuziraba, zeetooloolera ku nsonga ya mazzi, era ye nsonga lwaaki nti omuwandiisi yazireetera mu mulyango gw'amazzi, nga hadith ezo ssatu zoogera ku mazzi omuntu geyetukuzzaako nago negasigalawo, negafikka mu kyombo, then[oluvannyuma] omuntu omulala najja n'ayagala yeetukuze n'amazzi gano agaafisse mu kyombo oluvannyuma lw'oli okweetukuzisa ku mazzi ago.

Twaala eky'okulabirako, nze mbadde ne janaba, **مَثَلًا[kino ky'akulabirako]**, mu kubeera ne janaba, nenfuna ebbaafu nga mulimu amazzi, **مَثَلًا[kino ky'akulabirako]**, kino tekikola ku bantu banaabira mu shower, kikola ku bantu abanaabira mu byombo nga ate ebyombo ebyo biri open. Bbaafu ntaddeku amazzi, nnyina janaba, neemba nga nnaaba janaba nga neeyambisa amazzi ago agali mu bbaafu, oluvannyuma lw'okunaaba kwange janaba newabaawo amazzi agafikka mu bbaafu, kati omuntu omulala najja n'ayagala amazzi ago agali mu bbaafu agaafissewo oluvannyuma lwa nze okunaaba janaba, n'ayagala amazzi ago agafunise wuzu oba okuba ntinno aganaabisa.

Hadith zino essatu nga bwebazitusomedde zoogera ku mazzi ago obulamuzi bwaago, hadith nga bwebazitusomedde essatu, zonna zoogera ku mazzi ago n'obulamuzi bwaago, kansubire ntinno ekifaananyi mukitedde bulungi nnyo, **بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ**.

A ((مَسْأَلَةٌ)) AGO ABAMANYI B'AGAAWUKANAMU

Abamanyi abamu bagamba, **رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى** nti amazzi ago singa kiba nga mukazi yeeyaganaabyeeko negafikkawo, nga omukyaala oyo mu kunaabisa amazzi ago yeeyawulidde nago, yanaabye bw'omu, -njagala mutegeere ebigambo byange musobole okutegeera a "مَسْأَلَةٌ" agali

connected ku hadith eno-, nga omukyaala ono amazzi ago bweyabadde anaaba nga omukyaala ono amazzi aganaabyeeko bw'omu tabadde na muntu mulala yenna, abamanyi bano nebagamba nti mu mbeera eyo omusajja najja oba omuntu omulala yenna, amazzi ago n'asaanga nga g'afiseewo mu bbaafu oluvannyuma lw'omukyaala okuganaabamu, omuntu ono takkirizibwa kunaabisa mazzi ago.

Nziramumu ebigambo byange obitegeere, omukyaala abadde ne **janaba** oba abadde ne حَيْضُ [omusaayi omukyaala gw'afuna nga agenze mu nsonga ze] oba omukyaala abadde ne نَفَاسُ [omusaayi oguva mu mukyaala oluvannyuma lwa yye okuzaala], omukyaala oyo n'atukula okuva mu حَيْضُ [omusaayi omukyaala gw'afuna nga agenze mu nsonga ze] oba mu نَفَاسُ [omusaayi oguva mu mukyaala oluvannyuma lwa yye okuzaala], n'ayagala okweetukuza, n'ayagala okunaaba, n'afuna ebbaafu nga mulimu amazzi n'anaaba ku mazzi ago bw'omu nga talina muntu mulala yenna amweegasseeko mu kunaaba, n'anaaba nga ali bw'omu nga yeeyambisa amazzi ago agali mu bbaafu, then[oluvannyuma] n'amaliriza okunaaba, wabula mu bbaafu muno mw'abadde anaabira newabaawo amazzi agafikkamu, agamu aganaabye newabaawo agafikka mu bbaafu, omuntu omulala bwajja takkirizibwa kweetukuza na mazzi ago.

Era ky'ekimu ne ku musajja, singa omusajja aba nga abadde ne janaba, مَثَلًا [kino ky'akulabirako], n'akwaata ebbaafu, ebbaafu eno n'anaaba janaba, newabaawo amazzi agafikka mu bbaafu, omukyaala najja n'ayagala okuba ntinno yeetukuza n'amazzi gano agafisse mu bbaafu, abamanyi bagamba nti ekyo tekikirizibwa.

Abo beebamanyi abasooka, bagamba batya!?, nti omukazi singa abeera yeetukuzisizza n'amazzi, amazzi ago negafikka mu kyombo oluvannyuma lwa yye okweetukuza, omusajja takkirizibwa kweetukuza na mazzi ago gafisse mu kyombo, kyokka ate n'omusajja singa yeetukuza n'amazzi newabaawo amazzi agafikka mu kyombo omukyaala takkirizibwa kweetukuza na mazzi ago gafisse mu kyombo oluvannyuma lwa musajja kweetukuza.

Nebakireeta mu mbeera ey'okuba ntinno kiri **"مطلق"**, Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ yakiziyiza, yakigaana omukyaala okunaabisa amazzi agafisseewo oba okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omusajja okweetukuza oba omusajja okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omukyaala okweetukuza, era nga abakyoogera ekyo beesembesa hadith eya;

"عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِ سِنِينَ، كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ"

Omwaami oba swahaaba, yawangaala n'Omubaka مُحَمَّدٌ ﷺ emyaaka ena nga أَبُو هُرَيْرَةَ naye bweyawangaala n'Omubaka مُحَمَّدٌ ﷺ emyaaka ena.

Bino حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيِّ y'abitugamba, nti hadith eno eva ku musajja gwebataasobola kutugamba mannya ge, gwebataasobola kutubuulira mannya ge, naye omusajja oyo yawangaala n'Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ emyaaka ena nga أَبُو هُرَيْرَةَ naye bweyawangaala n'Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ emyaaka ena, omusajja ono y'atunyumiza ebigambo bino okuva ku Nabbi.

Agamba nti: Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

"نَهَى أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ"

Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ yaziyiza omukyaala okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omusajja okweetukuza, omusajja abadde n'ekizuusi ekinene n'afuna amazzi mu bbaafu neyeetukuza, newabaawo amazzi agafikka mu bbaafu eyo, omukyaala takkirizibwa kweetukuzisa mazzi ago agafisseewo mu kyombo oluvannyuma lw'omusajja okweetukuza.

Hadith tekoma awo!, yeyoongerayo Omubaka مُحَمَّدٌ ﷺ nga agamba nti:

"وَالرَّجُلُ"

N'omusajja okuba ntinno

"أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ"

Yeetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omukyaala okweetukuza.

Wabula akakwakkulizo akali ku nsonga eno saagala okeerabire!, nga buli omu yeeyawulidde mu kweetukuza n'amazzi gano, bw'aba musajja nga abadde bw'omu nga anaaba, bw'aba mukyaala nga naye abadde bw'omu nga anaaba, then munne najja oluvannyuma, n'asaanga nga mu kyombo munne mw'abadde anaabira mulimu amazzi agafisseemu, n'ayagala okweetukuza n'amazzi ago, Nabbi ﷺ ekyo yakigaana, abamanyi abo bwebagamba era ky'ekigambo ky'aba **ظَاهِرِيَّة** [Abagoberera endaba ya Imaam Dauda ibn Ali ne Ibn Hazm ku nsonga eno], nga **إِمَامُ ابْنِ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى** bw'atulaga.

Omusajja takkirizibwa kweetukuza na mazzi mukyaala g'alesseewo luvannyuma lwa kuba ntinno yeetukuzza, era n'omukyaala takkirizibwa kweetukuza na mazzi musajja g'alesseewo luvannyuma lwa kweetukuza.

Bakyoogera nga beesembesa hadith eyo eva ku musajja ataasobolwa kwoogerwa linnya wabula nga ekikakafu yali swahaaba wa Mubaka محمد ﷺ, hadith eyo eri mu **سُنُنُ أَبِي دَاوُدَ** ne mu bitabo bya hadith ebirala_, abo beebamanyi abasooka_ **طَيْبٍ**, ekyo ky'ekigambo ekisooka mu **((مَسْأَلَةٌ))**.

EKIGAMBO EKYOOKUBIRI

Abamanyi bano bbo bagamba nti yye omusajja akkirizibwa okweetukuza n'amazzi omukyaala g'alesseewo oluvannyuma lw'okweetukuza naye ate yye omukyaala takkirizibwa kweetukuza na mazzi musajja g'alesseewo luvannyuma lwa kweetukuzza.

Yawula ebigambo bino!, kiri ky'abadde side zombi nga omukyaala takkirizibwa nga n'omwaami takkirizibwa, ky'ekigambo ky'aba **ظَاهِرِيَّة** [Abagoberera endaba ya Imaam Dauda ibn Ali ne Ibn Hazm ku nsonga eno] era y'emu ku ndaba za **إِمَامُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ**.

Ekigambo ekyookubiri kino kkyo kigamba nti yye omukyaala takkirizibwa n'akatono kweetukuza na mazzi musajja g'alesseewo luvannyuma lwa kweetukuza, kyokka ate yye omusajja

akkirizibwa okweetukuza n'amazzi omukyaala g'alesseewo, agafisseewo oluvannyuma lw'omukyaala okweetukuza, yye omusajja akkirizibwa, mukyaala y'atakkirizibwa.

Aboogera ekigambo ekyo beesembesa bujulizi ki?.

Beesembesa hadith ziri bbiri oba ssatu.

HADITH ESOOKA

Hadith ya **صَاحِبُ مُسَلِّمٍ** eri mu **ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**.

Agamba nti: Omubaka **محمد ﷺ**;

"اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ"

Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** yanaabisa amazzi agaali gafisseewo oluvannyuma lwa maama waffe **مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا** okweetukuza.

Amakulu nti mukyaala w'Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** Maymuuna [مَيْمُونَةَ] yeetukuza okuva eri janaba wabula nga ali bw'omu, yeetukuza ali bw'omu, yanaaba bw'omu, newabaawo amazzi ag'afikka mu kyombo kyeyanaabiramu, Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** oluvannyuma najja nga naye azze kunaaba janaba n'asaanga amazzi mu kyombo nga g'afisseewo, n'anaabisa amazzi ago maama waffe **مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** geyali alesseewo oluvannyuma lwa yye okweetukuza, eyo hadith namba one, **"اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ"**.

HADITH NAMBA BBIRI

Era nayo eva ku **ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** atugamba nti;

"اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ"

Omu ku bakyaala b'Omubaka **محمد ﷺ** yanaabira mu kyombo

Omukyaala oyo fenna tumutegedde bulungi nti ye Maama waffe مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا, yanaabira mu kyombo oluvannyuma newabaawo amazzi agaafikka mu kyombo nga bwembagambye jebuvudeko.

"جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ najja nga ekimuleese naye azze kunaaba janaba nga [Ekkubo رَوَايَةٌ] **eddala hadith mweyayitira**] emu bwegamba: "لِيُغْتَسَلَ مِنْهَا أَوْ لِيَتَوَضَّأَ"

Nga ekimuleese azze kunaaba janaba oba nga azze kufuna buwuzu, ekimu ku bibiri kyekyaali kimuleese, yali azze either kunaaba janaba oba nga azze kufuna wuzu, ekikulu yali azze kweetukuza, wabula n'asaanga nga mu kyombo mulimu amazzi ag'afisseemu n'asalawo yeyaambise ago amazzi agaali gafisse mu kyombo ekyo.

Mukyaalawe مَيْمُونَةُ kwekumugamba nti: "إِنِّي كُنْتُ جَنَابًا يَا رَسُولَ اللَّهِ!"

Owange ggwe Omubaka wa Allah, ago amazzi oyagala kweetukuza nago!, naye nabadde ne janaba ate nenneetukuza n'amazzi ago negafikkawo bufissi, nabadde ne janaba nenneetukuza, ago amazzi gegaafisseewo oluvannyuma lwa nze okweetukuza okuva eri janaba, nga alinga amutegeeza nti ssi kituufu eri ggwe kweetukuza na mazzi ago.

Omubaka مُحَمَّدٌ ﷺ kweekumugamba nti: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنَبُ"

Amazzi tegabeera na janaba, ssaagala olowooze nti janaba bweyavudde kuggwe ate yazze mu mazzi, amazzi tegafuna janaba, bwaaty Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ bweyaddamu mukyaalawe era n'afundikira nga amazzi yeetukuzza nago, naye nga amazzi gano omukyaala yali amugambye nti yali yeetukuzza nago, ago nga gafisseewo bufissi...

Kati bano abamanyi beesembesa hadith ya ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمَا ku kigambo kyaabwe eky'okuba nti yye omukyaala takkirizibwa kweetukuza na mazzi gafisseewo luvannyuma lwa

musajja kweetukuza, naye ate yye omusajja akkirizibwa okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omukyaala okweetukuza.

Bagamba nti hadith eri ey'omusajja gwetutaasobola kutegeera mannya yajja nga yyo eri;

- ❖ "عَامٌ", nga ebuna ku bakyaala n'abaami.

Kyokka ate hadith eno eya **ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُ** yyo nejja nga eri;

- ❖ "خَاصٌ", nejja nga eri "خَاصٌ", nga e specializize ku side emu, side y'abakyaala, nti abasajja bakkirizibwa okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'abakyaala okweetukuza.

Era nga bakyeesembesa lwaakuba nti Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ** yanaabisa amazzi agaali gafisseewo oluvannyuma lwa mukyaalawe okweetukuza, nebagamba nti hadith eri, eri "عَامٌ", ate eno eri "خَاصٌ".

Abakyaala bbo tubalekayo mu hadith eri, eri "عَامٌ", tubalekayo mu hadith eri ebuna, bbo tebakkirizibwa!, naye ate bbo abasajja eno hadith yyo n'ebajjamu, wali Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ** yakyoogeta nga kibuna wano bweyamala n'alyooka ajjamu abasajja, **yabajjamu atya?!**, na yye kuba ntinno ekikolwa ekyo akikola, yanaabisa amazzi agaali gafisseewo oluvannyuma lwa mukyaalawe okuba ntinno yeetukuza.

Kati bbo bano bagamba nti abakyaala tubalekayo mu hadith eri, eri general[ebuna], ate abasajja netubajjamu mu hadith eri olwa hadith eno eya **ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمَا**.

Abamanyi abo bbo nebafuundikira nga bagamba batya?!

Nti omukyaala y'atakkirizibwa kuba ntinno yeetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omusajja okweetukuza.

Kivudde ludda wa ekyo?.

Mu hadith y'omusajja oli eyawangaala n'Omubaka **أَرْبَعُ سِنِينَ**, عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

Kyokka ate yye omusajja akkirizibwa okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omukyaala okweetukuza, **kivudde ludda wa ekyo?**, kivudde mu hadith ya **أَبْنُ عَبَّاسٍ** nga Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ yeetukuza n'amazzi agaali gafisseewo oluvannyuma lwa mukyaalawe **مِيمُونَةَ** okweetukuza_.

EKIGAMBO EKISEEMBAYO

Ekyookusatu mu **(مَسْأَلَةٌ)** ky'ekigambo kya **جُمْهُورٌ**, ky'ekigambo ky'aba **شَافِعِيَّةٌ** [Abagoberera endaba ya Imaam Shaafi ع ku nsonga eno], ky'ekigambo ky'aba **مَالِكِيَّةٌ** [Abagoberera endaba ya Imaam Maalik ku nsonga eno], era ky'ekigambo ky'aba **حَنْفِيَّةٌ** [Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno].

Kigamba kitya?.

Kigamba nti omwaami akkirizibwa okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lwa mukyaalawe okweetukuza, n'omukyaala akkirizibwa okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omwaamiwe okweetukuza bwegaba nga ago amazzi geegaliwo era takkirizibwa ku tayammama nga ago amazzi weegali.

Wabula abamanyi abamu kwaabo bbo nebagamba nti kitamwa okweeyambisa amazzi ago singa wabeerawo amazzi amalala, ate abalala nebagamba nti tekitamwa, kikkirizibwa **سَوَاءٌ** [ky'ekimu] waliwo amalala oba ago gokka geegaliwo, ngenda kubinnyonnyola obitegeere!.

Ngambye nti bali basatu, bonna beegattira ku kigambo kimu naye nebaawukanira awantu watono **بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ**, bonna bagamba nti omukazi n'omusajja bakkiriizibwa bonna okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omu kwaabo okweetukuza, bw'aba nga mukyaala yeyeetukuza

newabaawo agafisseewo omusajja akkirizibwa okweetukuza n'amazzi ago, bw'aba nga musajja yeyeetukuzza n'amazzi negafikkawo omukyaala akkirizibwa okweetukuza n'amazzi ago.

Wabula nebaawukana ku nsonga emu.

Abamu bagamba ntinno gano amazzi okweetukuza nago kitamwa bwewaba nga waliwo amazzi amalala, ky'ekigambo ky'aba **مَالِكِيَّةُ**[Abagoberera endaba ya Imaam Malik ku nsonga eno], bagamba nti kitamwa bwewaba nga waliwo amazzi amalala agatakozeseddwaako.

Ate ekigambo ekyookubiri eky'abamanyi abalala, bagamba nti tekitamwa kukozeza mazzi ago **سَوَاءٌ**[ky'ekimu] waliwo amalala oba tewaliiwo malala, kikkirizibwa mu mbeera yonna, **طَيِّبٌ**.

ABAMANYI ABO BEESEMBESA OBUJULIZI BUNO WAMMANGA

Bagamba nti Omubaka **مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, **أَبْنُ عَبَّاسٍ** atugambye nti yeetukuza n'amazzi agaafikkawo oluvannyuma lwa mukyaalawe okweetukuza, yeetukuza n'amazzi agaafikkawo oluvannyuma lwa mukyaalawe okweetukuza.

Bagamba nti hadith eri ey'omusajja ataasobola kutegeerekeka mannya mu ba swahaaba b'Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ**, hadith eyo nnafu, bagamba nti hadith eyo nnafu olwensonga ntinno hadith eyo yetooloolera ku **دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ**, sso nga ate omwaami oyo **دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ**

"ضَعِيفُ الْحَدِيثِ"

Hadith ze, hadith nnafu, nebeesembesa ekyo nebagamba ntinno hadith eyo, hadith nnafu.

Nebeesembesa ekigambo namba bbiri, nebagamba nti hadith eyo erimu **"جَهَالَةٌ"**, olwensonga nti swahaaba eyayogera hadith eyo teyasobola kutegeerekekwa era tamanyiddwa, tetumanyi swahaaba ki yayogera hadith eyo, tetumumanyi!, nebeesembesa ekyo nebagamba nti: olw'okuba nti swahaaba oyo ali **"مَجْهُولٌ"**, hadith eyo tugenda kujinafuya.

Abamu nebagatta hadith ezo bbiri mu ngatta bweeti, eri nebaginafuya, nebanweezaawo eya **ابن عباس**, nebagamba eya **ابن عباس** ntuufu, eri mu **صحيح مسلم**, eraga nti kikkirizibwa omusajja okuba ntinno yeetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lwa mukyaalawe okuba ntinno yeetukuza ate nga **"النساء شقائق الرجال"**

Abakyaala babeera bannyina b'abaami mu **"أحكام"**, okujjako nga waliwo obujulizi obubajjamu, hadith eri jemweesembesa okulaga nti tekikkirizibwa, hadith nnaful;

- ❖ Anti mu **سند** yaayo mulimu **داود بن عبد الله الأودي**
- ❖ Ekyookubiri swahaaba eyannyumya hadith eyo tetumumanyi, tetwaamutegeera!_.

Abamanyi abalala bagamba nti Nedda!, hadith eri ntuufu kubanga;

"داود بن عبد الله الأودي رجل ثقة"

Musajja yeestigikwa

"وثقه كثير من المحدثين"

B'alaga nti yeestigikwa bangi mu bamanyi ba hadith, abamanyi ba hadith bangi b'alaga nti yeestigikwa, musajja yeestigikwa **بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ**.

Muleme okumubuzaabuza ne **داود بن عبد الله الحميري**, bali ba **داود ابن عبد الله الأودي** basatu;

- ❖ Waliwo **داود بن عبد الله الأودي**
- ❖ Newabeerayo ne **داود بن عبد الله التيمي**
- ❖ Newabeerayo ne **داود بن عبد الله الحميري**

Muleme okumubuzaabuza ne **داود بن عبد الله** omulala, ono ye **"داود بن عبد الله الأودي رجل ثقة"**

Musajja yeestigikwa, era ebigambo bye bitwaalibwa.

Ekyookubiri kyemweseembesezza okugamba ntinno swahaaba eyayogera hadith eyo tetumumanyi!, ekyo ekigambo ky'ogerwa muntu atayina kumanya mu **عِلْمٌ** ya **حَدِيثٌ**, olwensonga nti abamanyi ba hadith bonna **"اتَّفَقُوا"**, beegatta nti: **"جَهَالَةُ الصَّحَابَةِ"**

Swahaaba obutategerekekwaabwe

"لَا تَضُرُّ"

Tekikosa

"جَهَالَةُ الصَّحَابَةِ لَا تَضُرُّ"

Obutategerekekwa bwa swahaaba tebukosa ku butuufu bwa hadith, tebuyina kyebukyuusa ku butuufu bwa hadith, kubanga ba swahaaba bonna.

"كُلُّهُمْ عَدُوٌّ"

Bonna beesigikwa, era bonna benkanankana mu kweesigikwa, bonna ebigambo byaabwe bitwaalibwa, kasita baba nga babisimbudde kuva ku Mubaka **محمد ﷺ**.

Wabula **"جَرَحُ"** ne **"تَعْدِيلُ"**, ekola ku balala abatali ba swahaaba, wabula ba swahaaba

عَدْلَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

Weyagambira nti: **﴿...رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ...﴾**

اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى bonna yabejjeereza olunaku lweyagamba nti abasiimye nabo nebamusiima.

Ba swahaaba bonna beesigikwa, ebigambo byaabwe bitwaalibwa kasita babisiimbula kuva ku Mubaka **محمد ﷺ**.

"جَرَحُ" ne **"تَعْدِيلُ"**, okukuba tooki, okwekennya obutuufu bw'omuntu, n'obutuufu bwe bigambo bye, ekyo kikola ku basigadde abatali ba swahaaba **رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمْ**.

Therefore eyo ensonga jemuwadde mu kunafuya hadith eyo nsonga etayogerwa muntu ayina kumanya mu **عَلَّمَ** ya **حَدِيثُ** era mutweewunyisizza nnyo!, _ bwebabagamba!_.

Wabula hadith eyo ffe tugenda kujigatta bwetuti, tugenda kugamba nti Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ**

Okuziyiza kwe kuli okwajjira mu hadith ya;

"رَجُلٌ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِ سِنِينَ"

Okwajjira mu hadith y'omwaami oyo gwetutasobodde kutegeera mannya naye nga yali swahaaba w'Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** era yabeera naye emyaaka ena, okuziyiza okwo tekwaali kwa

"تَحْرِيمُ"

Tekwaali kwa kulaga nti ekiziyiziddwa kiri haram wabula okuziyiza okwo kwaali kwa kulaga nti ekiziyiziddwa kitamwa

Singa wabeerawo amazzi amalala kitamwa okweeyambisa ago agakozeseddwaako wabula wewaba nga tewaliwo mazzi malala nga ago agakozeseddwaako gokka geegaliwo, tokkirizibwa ku tayammama wabula okakatibwaako kukozeza ago agaliwo.

Kati hadith eno eya **أَبْنُ عَبَّاسٍ**, yyo n'etulaga nti Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** bweyajja mu maka ga **مَيْمُونَةَ** ago amazzi geegaliwo, geegaaliwo, era ye nsonga lwaaki nti Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** yeetukuza nago, era hadith eyo yejjulula obulamuzi okubujja ku **"تَحْرِيمُ"** n'ebuteeka ku **"كَرَاهَةٌ"** _.

By'ebigambo bisatu ebiri mu ((مَسْأَلَةٌ)) byokka, ngenda kubiddamu mu bufunze ensonga mbeere nga njivuddeko.

Ekigambo ekisooka bagamba nti tekikirizibwa, kiri **haram** omwaami okukozesa amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omukyaala okweetukuza, era kiri **haram** eri omukyaala okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omwaami okweetukuza.

Ekyo abakyoogera beesembesa hadith ya swahaaba oyo gwetutasobodde kutegeera mannya nga atugamba nti:

"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ"

Nabbi ﷺ yaziyiza omukyaala okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omwaami okweetukuza, n'omwaami okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omukyaala okweetukuza.

Ekigambo kino ekiri wansi wa hadith ekigamba nti: **"وَلْيَعْتَرِفَا جَمِيعًا"**

Ekyo ssi kigambo kya Nabbi, ekyo kigambo kya مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ, omu ku ba **"رَوَاةُ"** ba hadith eyo, bwemunaaba nga mugenze okukebera mu **"سَدُّ"** ya hadith mujja kusaangamu omwaami oyo bamuyita رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, y'eyayogera ekigambo ekyo ekigamba nti:

"وَلْيَعْتَرِفَا جَمِيعًا"

Wabula ssi kigambo kya Mubaka مُحَمَّدٌ ﷺ nga abamanyi webatugamba, رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

Omwaami takkirizibwa kunaabisa mazzi gafisseewo oluvannyuma lwa mukyaala kweetukuza, n'omukyaala takkirizibwa kweetukuza na mazzi gafisseewo oluvannyuma lwa mwaami kweetukuza, **wabula ekikirizibwa ky'ekiri wa?!**, ekikirizibwa bombi kunaabira wamu, webaba nga banaabidde wamu ekyo tekiyina mutawaana, era kiriko **"حديث"** entuufu mpitirivu, omulimu **عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا** "حديث" ya Maama waffe

"كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ"

Nze n'Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ tw'anaabiranga mu kyombo ky'ekimu

N'agamba ntinno: "فِي الْقَدْحِ"

Nga tunaabira mu kyombo ekyali kibajjiddwa obubajjibwa okuva mu muti

"يُقَالُ لَهُ الْفَرْقُ"

Nga ekyombo ekyo bakiyita "الْفَرْقُ"

Awo waliwo a ((مَسْأَلَةٌ)) bwetunaaba tutuuse ku hadith eyo nayo tujja kujinnyonnyola lwaayo, abamanyi b'ayawukana mu "الْفَرْقُ", ekyombo ekyo kigendamu litres mmeka?

- ❖ Abamanyi abamu nga bagamba nti: "الْفَرْقُ" kyombo kibeeramu litres kkumi na mukaaga, "سِتَّةَ عَشَرَ لَيْتْرًا", kibeera e'litres kumi na mukaaga.
- ❖ Ate abamanyi abalala nga mulimu ابْنُ أَبِي رَجْمَةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, yye agamba nti: "الْفَرْقُ" nga ((رَاءِ)) ya "فَتْحَةً", ekyo kibeera ekyombo ekigendamu litres ekkumi n'omukaaga ea mazzi, ate "الْفَرْقُ" nga ((رَاءِ)) ya "سُكُونًا", ekyo kibeera kyombo ekigendamu litres kikumi mu abiri ez'amazzi.

Wabula ekigambo ekyo ابْنُ حَبْرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ bweyali asharaha "صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ" mu kitabo kye "هَذَا قَوْلٌ غَرِيبٌ", ekigambo ekyo yakinafuya n'agamba nti:

Ekyo ekigambo kyewuunyisa, era kinafu!

Ekigambo kya إِمَامُ ابْنِ أَبِي رَجْمَةَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى n'akinafuya رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, n'anweezaawo ekigambo ky'okuba ntinno "الْفَرْقُ وَالْفَرْقُ", kibeera kyombo kimu naye nga ekyombo ekyo kijjaamu "ثَلَاثَةُ أَصْوَعٍ", "صَاعٌ" ssatu ez'amazzi.

Kati ate n'abamanyi nebaawukana mu "صَاعٌ" ssatu ez'amazzi zibeeramu litres mmeka?.

- ❖ Aba **حَنْفِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno] bbo bagamba nti "صَاعٌ" emu ebeeramu litres z'amazzi munaana, kiba kitegeeza nti "صَاعٌ" ssatu zibeera litres abiri mu nnya, abo beeba **حَنْفِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah ku nsonga eno].
- ❖ Ate "جُمْهُورٌ" yyo n'ebeera ku kigambo ekigamba nti "صَاعٌ" emu ebeeramu litres nnya, bwetuzigatta ssatu zibeera litres kkumi na bbiri, Ky'ekigambo kya "جُمْهُورٌ"

Kati ago ((مَسْأَلَةٌ)) nago tujja kugakwaatako lwaago bwetunaaba nga tutuuse ku hadith ya Maama waffe **عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا**.

Wabula **عَائِشَةُ** yye atugamba nti yanaabanga n'Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** mu kyombo kimu.

Maama waffe **مَيْمُونَةُ** naye yanaaba n'Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** mu kyombo kimu nga **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** bw'atunyumiza okuva ku **مَيْمُونَةُ** yennyini, **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا**

Nga **مَيْمُونَةُ** agamba nti:

"كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ"

Nze n'Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** tw'anaabiranga mu kyombo ky'ekimu.

Ne Maama waffe **أُمُّ سَلَمَةَ** nga hadith emujjibwaako muwalawe gwebayita **زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ** agamba ntinno:

"كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ"

Nze n'Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** tw'anaabiranga mu kyombo ky'ekimu.

Akabonero akalaga nti Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** yanaabanga ne bakyaala be mu kyombo ky'ekimu **عَلَيْهِ السَّلَامُ** era ekyo kyakkaatirizibwa hadith ya **جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمَا** eri mu **سُنُنُ ابْنِ مَاجَةَ** nga agamba ntinno:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ"

Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ yye ne bakyaaala be banaabiranga mu kyombo ky'ekimu.

Kati abamanyi bano, ba ظَاهِرِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Dauda ibn Ali ne Ibn Hazm ku nsonga eno] n'abamu ku bagoberezi b'aba حَنَابِلَةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad ibn Hambal ku nsonga eno], bagamba nti abafumbo singa babeera banaabidde mu kyombo ky'ekimu, ekyo tekirina mutawaana era kikkirizibwa olwa hadith ezo n'endala, wabula entata n'akabasa kali awantu wamu nga omu yeyawulidde n'amazzi, ekyo tekikkirizibwa side zombi, [ky'ekimu] سَوَاءٌ musajja yeyeeyawulidde n'amazzi omukazi takkirizibwa kweetukuza nago, oba omukyaala yeyeeyawulidde n'amazi omusajja takkirizibwa kweetukuza nago, ekyo ky'ekigambo ekisooka mu ((مَسْأَلَةٌ)), tokkirizibwa سَوَاءٌ [ky'ekimu] oli mukazi oba musajja.

Ekigambo ekyookubiri mu ((مَسْأَلَةٌ)) kigambo ky'aba حَنَابِلَةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad bun Hambal ku nsonga eno], bagamba ntinno omusajja yye akkirizibwa olwa hadith ya;

❖ ابْنُ عَبَّاسٍ

Kyokka ate yye omukyaala takkirizibwa olwa hadith ya;

❖ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرِجٍ, ne hadith y'omusajja oyo eyawangaala n'Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ emyaaka ena nga bwetwaakirabye.

Olwa hadith ezo ebbiri, eya عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرِجٍ ne hadith yooli, omukyaala takkirizibwa kweetukuza na mazzi agafisseewo oluvannyuma lwa musajja okweetukuza, naye ate yye omusajja akkirizibwa olwa hadith ya ابْنُ عَبَّاسٍ, ky'ekigambo namba bbiri.

Ekigambo namba ssatu: bombi bakkirizibwa, omwaami akkirizibwa okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omukyaala okweetukuza, n'omukyaala akkirizibwa okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omwaami okweetukuza.

Abakyoogera bagamba ki?

Abamu bagamba nti hadith eri nnafu, egaana abantu bano ababiri okweetukuza n'amazzi gaamunne, eyo hadith nnafu, hadith entuufu ye hadith ya **عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَ** **ابْنُ عَبَّاسٍ**, nga Omubaka **عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَ** yeetukuza n'amazzi agaali gafisseewo oluvannyuma lwa mukyaalawe okweetukuza n'amugamba nti amazzi tegafuna janaba, eyo hadith ntuufu, kyokka ate;

"إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ"

Abakyaala bannyina b'abaami mu nsonga za **"أَحْكَامُ"** n'ebisigadde, okujjako nga waliwo obujulizi obubaawula, naye bateekeddwa okuba ntinno batambulira wamu mu nnamula okujjako nga waliwo obujulizi obubaawula.

Bwekiba nga omusajja akkirizibwa okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lwa mukyaalawe okweetukuzaako, then kiba kitegeeza nti n'omukyaala naye akkirizibwa okweetukuza n'amazzi agafisseewo oluvannyuma lw'omwaamiwe okweetukuza, bagamba nti hadith eri nnafu olwensonga nti mu **دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ** (سَدُّ) yaayo mulimu **دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ**.

Ate abamanyi bano bennyini beebamu, mulimu bannaabwe abalala abawakanya bannaabwe ku ky'okuwakanya hadith eri, nebabagamba nti nedda!, muleme kunafuya hadith ntuufu, eyo hadith ntuufu, **دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ رَجُلٌ ثِقَةٌ**

Musajja yeesigikwa, era ebigambo bye bitwaalibwa.

Wabula hadith eyo yali ezze kutulaga nti okuziyiza okwo ssi kwa **"تَحْرِيمٌ"** wabula kwa **"كَرَاهَةٌ"**.

Lwaaki ssi kwa **"تَحْرِيمٌ"** kwa **"كَرَاهَةٌ"**?

Olwensonga nti waliwo hadith ya **ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهُمَا** nga Omubaka **مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** yeetukuza n'amazzi agaali gafisseewo nga mukyaalawe amaze okweetukuza, nekiraga ntinno

wewaba nga waliwo amazzi amalala kitamwa okukozesa gali olwa hadith eri egaana, wabula wegaba nga ago geegaliwo kikkirizibwa okuba ntinno ogakozesa olwa hadith ya **ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ طَيِّبٌ تَعَالَى عَنْهُمَا**.

Bali bali abaasoose eri wagguli eri_, ba **ظَاهِرِيَّةُ** [Abagoberera endaba ya Imaam Dauda ibn Ali ne **Ibn Hazm ku nsonga eno**], bazzaayo backfire, baa "رَدَّ", b'ayanukula bano abasembyeeyo n'aba wakati, nebabagamba ntinno: mmwe eddini temunnaba kujisoma, mukyaali banafu mu "علم", mulina byemutannategeera!

Hadith eyo eya **ابْنُ عَبَّاسٍ** kikalwa kya Mubaka **محمد ﷺ**, kyokka ate hadith eno ey'omusajja ono atategeerekese kigambo kya Mubaka **محمد ﷺ**.

"إِذَا تَعَارَضَ الْقَوْلُ الْفِعْلَ" egamba nti: "قَاعِدَةٌ"

Singa ekigambo kikontagana n'ekikalwa

"تُقَدِّمُ الْقَوْلَ"

Tukulembeza kigambo, ffe tusoosa kigambo, kyetusoosowaza.

Singa obujulizi bujja bubiri, nga obujulizi obumu bwa kigambo nga ate obujulizi obulala bwa kikalwa, Nabbi yakola ekyaawukana ku kyeyayogera, ffe tukulembeza kigambo, kyetutambulirako, kyetutwaala, **Iwaaki?**, olwensonga nti ekikalwa kino kiyinza okuba nga kisuubirwaamu okuba nti kyaali ky'eyawulidde yye **ﷺ**, kubanga waliwo ekigambo, yakyogera mmwe Ummah n'abalekera ekyo, kyemuyina okutambulirako, temuyina kukyaawukanako, kino ekikalwa kiyinza okuba nga kyaali ky'eyawulidde yye yekka **ﷺ**.

Bano babagamba nti: mmwe bato mu "علم", temuyina kyemwaategedde, temuyina kyemumanyi!, **"قَاعِدَةٌ"** jemwesembesezza ntuufu, naye mujeesembeszza bubu!, **Iwaaki?**, olwensonga nti ku nkomerero, Omubaka **محمد ﷺ**, mukyaalawe nga amaze okumugamba nti:

"إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ!"

Omukyaala oyo yayina entegeera y'emu n'eyammwe!

Naye laba Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ bw'amugamba nti: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ"

Ekyo nekiba nga kigambo!, kiri ky'abadde kicolwa, yes, tetugaanye!

Naye kino: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ"

Ekyo kigambo kyeyateerawo Ummah ye yonna, nga alinga ategeeza nti nange ggwe mukyaala wange مِيمُونَةٌ bw'onasanga nga mmaze okunaaba janaba mu mazzi newabaawo agafikkawo, tekiyina mutawaana naawe okkirizibwa okuba ntinno amazzi ago oganaabisa kubanga;

"إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ"

Ekyo kigambo!, Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ yagamba amazzi tegafuna janaba, muleme kulwoozesa bantu nti janaba bw'evudde ku muntu ezze mu mazzi.

Tusigala ku kigambo kyaffe, nti kiri ekigambo kyaali kiri mu kututegeeza nti kitamwa butamwa muntu kukozeza mazzi gafisseewo luvannyuma lwa munne kweetukuza singa waba nga waliwo amazzi amalala agatakozessedwaako, wabula wewaba nga tewaliwo mazzi malala nga ago gokka geegaliwo tewali mutawaana okuba nti tugakozesa.

Ebyo by'ebigambo ebiri mu ((مَسْأَلَةٌ)), biwaanvuwamuuko okusukka awo, naye njagadde nneme okuba nti mbatwaalira time, nnensalawo tubeere nga tubifuunza fuunza bweetutyo, بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى.

Ku bisatu twaagalako kimu!.

"الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ" egamba nti: "قَاعِدَةٌ"

Okugatta obujulizi obukoonaganye, nga buno bugamba kino ate buno bugamba ekyawukana ku kino, okugatta wakati w'obujulizi obukoonaganye, kya bwatteeke ebbanga lyetumala nga tuyina obusobozi obukikola

"الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن"

Okugatta obujulizi obukoonaganye kya bwatteeke ebbanga lyetumala nga tuyina obusobozi obukikola.

Newabeerawo "قاعدة" namba bbiri, egamba nti: "إِعْمَالُ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِ أَحَدِهِمَا"

Okukolera ku bujulizi bwombiriri ky'ekisinga okuba ekirungi, ky'ekisinga okuba eky'obuyivu, ky'ekisinga okubeera ekyebbeeyi okusinga okufiisa obumu, n'osalawo otambulire ku bumu obulala bbwo n'obufiisa.

Bwebuba nga obujulizi buzze bwombi, kakasa ntinno olwaana okulaba nti bwombi obukolerako oleme kufiisa bumu otambulire ku bulala buno.

Bali abamanyi ab'asoose b'akolera ku bujulizi bumu nebafiisa obulala, nebagamba nti hadith eno eya **أَبْنُ عَبَّاسٍ**, ekyo kikolwa kya Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ**, kiyinza okuba nga kyaali ky'eyawulidde yye!, bbo nebasigala ku bujulizi buli obugaana bwokka, era nebesigamira kw'obwo, nebafuundikira nga bayisizza obulamuzi obugamba nti: omwaami n'omukyaala tebakkirizibwa bombi kukozeza mazzi mulala gaafissizzaawo luvannyuma lwa kweetukuza, nebatambulira kw'ekyo, nebafiisa obujulizi buno obusigadde, **ekyo kyetugaanye!, kyetugambye nti tekikkirizibwa, طَيِّب.**

Bano abamanyi aba wakati bbo nebagezaako okugatta obujulizi, ba **حَنَابِلَةٌ** [Abagoberera endaba ya **Imaam Ahmad bun Hambal ku nsonga eno**], nebagamba ntinno: buli obujulizi butulaga nti omukyaala takkirizibwa kweetukuza na mazzi gafisseewo, ate buno bbwo nebutulaga nti yye

omusajja akkirizibwa, kubanga buli buli "عَامٌ", ate buno buli "خَاصٌ", buli bwajja nga bu generalizinze ate buno nebujjamu abasajja, abo bbo nebagezaako okugatta wakati w'obujulizi.

Wabula tubagamba nti: okugatta okwo kugatta kw'awala, ate nga "قَاعِدَةٌ" egamba nti: bwetuba nga tugatta obujulizi, tuyina kusoosa kugatta okukulemba nga tetunnaba kutunuulira kugatta kuddako, ekikulu nti okugatta obujulizi kulimu emitendera, tekuli mu weight y'emu, tekuli mu level y'emu, tokkirizibwa kugenda ku mutendera gwa kubiri nga ogusooka tegunnagaana!, kakasa nti ogusooka gusoosa kugaana olyooke ogende ku mutendera namba bbiri, bwegugaana genda ku mutendera namba ssatu, وَهَكَذَا [bw'otyo], wabula singa otandikira ku mutendera namba nnya nga namba bbiri asoboka, ekyo kikyaaamu!.

Bano bagamba mutandikidde ku mutendera gwa wala, nemulekawo omutendera ogw'okumpi, ekyo tekikirizibwa!.

Ekituufu ky'ekiriwa?.

Nti eri hadith eraga kutamwa singa wabeerawo amazzi amalala, bano bbo nebagamba abalala, aboogera ekigambo ky'ekimu ekyo nti: "aaa" teraga yadde okutamwa, hadith nnaifu, tewali kutamwa kwonna, hadith eri nnaifu, hadith entuufu y'eno!.

Tubagamba nti: nammwe ate mokedde okunafuya hadith, musooke muddeko ebbali!, mokedde hadith okujinafuya, tusooke tuwulirize bano abagamba nti hadith ntuufu, bagamba nti kiri kitamwa.

Kati njagala mukozese obwongo bwammwe بِإِذْنِ اللَّهِ ebigambo ebyo ebisatu oba ebina, kubanga nze mbiyita bina, kubanga bano abasembyeeyo ba شَافِعِيَّةً [Abagoberera endaba ya Imaam Shaafi ع ku nsonga eno], ba مَالِكِيَّةً [Abagoberera endaba ya Imaam Malik ku nsonga eno] neba حَنْفِيَّةً [Abagoberera endaba ya Imaam Abu Hanifah ku nsonga eno] ate nabo bayina

webatakkaanyiza, bakkaanya ku kintu kimu nti gakkirizibwa okukozesa enjuyi zombi, naye nebaawukanira mu gatamwa oba tegatamwa singa wabaawo amalala, awo wokka webaawukanira, abamu bagamba nti gatamwa wewabaawo amalala, abalala bagamba nti tegatamwa **سَوَاءٌ [ky'ekimu]** geegaliwo gokka oba waliwo amalala.

Kati njagala munnondere kw'ebyo ebigambo okusinziira ku bujulizi nga bwemubuwulidde nennyinyikira jebukunnyikiddemu ggwe, ombuulire ekigambo ekituufu jooli **بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ**.

Ensomesa eyo yensomesa bakadde baffe jebatukubiriza okulemerezaako abantu, omuntu Allah yamuwa obwongo nga **ابْنُ كَثِيرٍ** bweyagamba mu "تَفْسِيرٍ" ye_, ojja kukebera mu "تَفْسِيرٍ" ya **ابْنُ كَثِيرٍ** ku Ayah egamba nti:

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ...﴾

Mu "تَفْسِيرٍ" ya **ابْنُ كَثِيرٍ** mujja kugenda mukebere awo

رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, **ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ**.

Yagamba nti: **"لَا يَزَالُ النَّاسُ"**

Abantu b'akusigalira nga ddala, nga

"مُخْتَلِفِينَ فِي أَدْيَانِهِمْ، وَأَرَائِهِمْ، وَمَذَاهِبِهِمْ"

Ssi biseengese nga bwebiri naye nga biri mu njatula bweetyo, baakusigalira ddala nga baawukana mu nzikiriza zaabwe, mu madiini gaabwe, tuyina okusigala nga tuyina abakatuliki, abakulisitaayo baakubeerawo, aba seventh day tujja kubeera nabo, mpaka enkomerero lw'enaayimirirawo, nga abantu baawukamu yawukamu mu madiini ne mu nzikiriza.

Ne mu "آراء", mu ndaba ez'ebintu bajja kusigala nga era baawukamu, ne mu ntegeera ya ((مَسْأَلَة)) era bajja kusigala nga baawukamu, nze ebintu nga bwembiraba ggwe ssi bwojja okubiraba, ekikulu buli omu kuba na bujulizi bweyesembesa nga ate butuufu, ekyo ky'ekisinga okubeera ekikulu...

Mpozi ekigambo kyembadde neerabidde eri omuwuulu, bagamba bali abamanyi ab'asoose abagamba nti tekikirizibwa side zombi, bagamba, wulirirza ekigambo kino kuba ba **ظَاهِرِيَّة** [Abagoberera endaba ya Imaam Dauda ibn Ali ne Ibn Hazm ku nsonga eno] bayina effujjo!, bagamba nti: singa omuwuulu akukyaalidde, bw'akukyaalira, n'onaaba ne mukyaalawo, bw'onaabye ne mukyaalawo newabaawo amazzi agafisse mu bbaafu, wabula nga mubadde munaaba babiri ggwe ne mukyaalawo, bwemumaze okunaaba mwembi newabaawo amazzi agafikka mu bbaafu, bagamba ba **ظَاهِرِيَّة** [Abagoberera endaba ya Imaam Dauda ibn Ali ne Ibn Hazm ku nsonga eno] nti ago amazzi omuwuulu akkirizibwa okweetukuza nago, ago ggo omuwuulu akkirizibwa!, wabula ate omu g'anaabyeeko omulala nga taliwo, nga anaabye bw'omu..... wabula singa baba baganabyeeko babiri nga tegeeyawulidde muntu omu, ago ggo ono akkirizibwa okuganaaba kubanga tegeeyawulidde muntu omu, beeba **ظَاهِرِيَّة** [Abagoberera endaba ya Imaam Dauda ibn ali ne Ibn Hazm ku nsonga eno], kubanga bbo nakugamba nti obujulizi babutunuulira ku ngulu, bino eby'okusimaasima munda eri tebabyaagala, bibawunyira ziizi, bino nti ate ononyeeyo "أَحْكَامُ" eziri mu hadith munda, ebyo tebabyaagala ba **ظَاهِرِيَّة** [Abagoberera endaba ya Imaam Dauda ibn Ali ne Ibn Hazm ku nsonga eno].

Era bamu batuuka n'okwoogera ekigambo nebagamba nti singa omusajja aba nga anaabisijja amazzi musajja munne akkirizibwa okunaabisa amazzi ago agafisseewo, tekiyina mutawaana kubanga yye Nabbi takigaanangako!, n'omukyaala bwaatyoo singa anaabisa amazzi newabaawo agafikkawo mukyaala munne akkirizibwa okuba ntinno anaabisa amazzi ago, wabula entata

mukyaala ku musajja, awo wokka w'ewali kalumanweera, kati abo beeba **أَبَاغُوبَرَةَ** [Abagoberera endaba ya Imaam Dauda ibn Ali ne Ibn Hazm ku nsonga eno].

أَبْنُ عَثِيمِينَ mu ((مَسْأَلَةٌ)) ago, yye ayina engatta jeyagattamu obujulizi obwo, omanyi musajja **رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى** "فقينه", Allah yamuwa okutegeera okwenjawulo okwewuunyisa buli omu

أَبْنُ عَثِيمِينَ oyo yagamba ku nsonga eyo, akyoogedde wangi mu kunnyonnyolaakwe **"بُلُوغُ الْمَرَامِ"**, ekitabo ekyo nga asharaha **"فَتْحُ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ"**

Nkakasa nti mwenna mukimanyi bulungi, kiri mu mijalladi ena, abamu bakiyina mw'ebiri bwekiba nga kiri mu **حَجْمٌ** [size] nnene muuko, ne mu **فَتَاوَى** ze, eza **"نُورٌ عَلَى الدَّرَبِ"** n'ewalala, abadde nga ajja akyoogera **رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى**.

Yye agatta hadith ezo bbiri mu ngatta bw'eti.

Agamba nti: hadith eri egaana ey'omusajja gwetutasobodde kutegeera mannya nga Nabbi agaana omusajja n'omukyaala, hadith eyo etegeeza nga omuntu ne mukyaalawe bali babiri mu kisenge, omukyaala alina janaba n'omuntu alina.

Njagala mutegeera ebigambo bya **!!أَبْنُ عَثِيمِينَ**.

Omukyaala alina n'omuntu alina, omukyaala n'ayingira ekinaabiro n'anaaba nga omusajja ali awo atudde, bw'amaze okunaaba newabaawo amazzi agafikkawo, ono n'alyooka ajja ate n'ayagala anaabise ago agafisseewo.

Yye **أَبْنُ عَثِيمِينَ** alaba nti Omubaka **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ** yayagala kuba ntinno atekawo embeera ey'okuba ntinno abafumbo bano ababiri webaba nga bonna weebali banaabe babiri, yayagala kuteekawo mukwaano ogwo ogw'ekimmemme wakati waabwe, banaabe nga babiri bwebaba nga bombi weebali, era ky'ekigambo kino ekisembayo wansi mu hadith ya **عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَرِجِسَ**

Omubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ yagamba nti: "وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا"

Wabula banaabe bonna, yagaana omu okunaaba yekka n'omulala...

N'agamba nti: "وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا"

Banaabe bonna.

أَبْنُ عَثِيمٍ neyeekwaata awo, n'agamba nti Omubaka kyeyali ayagala, yayagala kwongeza "مودة" wakati wa bafumbo banaabeko bombi, era nga naye bweyanaabanga ne bakyaalabe, bwemuba nga mwembi weemuli munaabe mwenna, n'ateekawo ekibonerezo nti singa amazzi omukyaala yye ayingira mu kinaabiro n'anaaba bw'omu nga bbaawe waali, gano agasigaddewo takkirizibwa kuganaabisa, n'omwaami bwaatyongira mu kinaabiro, omuntu n'anaaba nga omukyaala waali, tewali kimugaana kunaaba na bba, gano taganaabisa!.

أَبْنُ عَثِيمٍ yye bwaatyongira bweyakitwaala, yagamba nti ekyo ekigambo Nabbi yakiteekawo nga ayagala kwongera love wakati wa bafumbo banaabe bombi.

Wabula singa omwaami aba nga taliwo, yabadde ne janaba مَثَلًا [ky'akulabirako], n'afuna ensonga emutwaala n'agenda speed speed bambi, n'agenda, then agenze okudda nga omukyaala amaze okunaaba nga bwekyaali ku Mubaka عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ yafuluma wabweeru, bweyava wabweeru

"جَاءَ النَّبِيُّ"

Yava bweeru, omukyaala ono yye yali amaze okunaaba, Nabbi yamusanga amaze okunaaba, Nabbi bweyajja n'alaba nga waliwo amazzi agafisseewo n'aganaabisa, wabula bweyabeerangawo yanaabanga naye nga أَبْنُ عَبَّاسٍ bw'atunyumiza ne مَيْمُونَةَ mwennyini, nti Omubaka bweyabeerangawo b'anaabanga babiri, naye kino kyaali mu mbeera nti Nabbi teyaliiwo yali afulumyeemu n'asanga nga ate omukyaala yye amaze okunaaba newabaawo amazzi agafisseewo Nabbi n'ataandikira kw'ago.

Ekyo **أَبْنُ عَثِيمِينَ** yagamba nti kikkirizibwa ewatali kutamwa kwonna wabula kiri kyaali kyesigamidde mu kuba nti Nabbi yayagala kuzimba mukwaano wakati wa bafumbo ababiri_.

Mulimu abafumbo abamu nga tebanaabangako babiri nga ensonyi zebayina mpitirivu!, nga yye okunaaba n'omukyaala alabira ddala nga ekyo kivve kinne nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo, omuntu anaaba atya ne mukyaalawe?!_, abantu abamu betwaala nti “nze ndi muntu mukulu nkaddiye, ebyo bikolebwa bvavubuka”, Nabbi yayina emeka mw'ekyo ekiseera?!, yalina abiri mu e'satu?!, naye yye agamba nti ebyo bikolebwa bavubuka ffe tuli basajja bakulu, tukulanye, kati nga bandaba ntya nze ne maama naaki nga tuli mu kinaabiro, “ndekeraamu ndekeraamu”, bya kivubuka!.

Kale kaakati, mu butuufu nze ekigambo kya **عَثِيمِينَ** ekyo nange, ssi kitwaala lwa kuba nti **عَثِيمِينَ**, wabula obujulizi entunuulira jeyabutunuulira, **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**

"وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا"

Kano **مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ**, "رَاو", "مُدْرَجٌ", y'eyakoogera, **وَلِيَعْتَرِفًا جَمِيعًا**, ekyo ekigambo ekyo kiri **مُدْرَجٌ مِنَ الرَّأْيِ**, tetuyina kyetukyeetaaza nnyo, naye kino ekyo Nabbi

"وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا"

Waliwo **رَوَايَةٌ** [Ekkubo eddala hadith mweyayitira] endala webaabuuza **أَبُو هُرَيْرَةَ** nti: **كَيْفَ؟**

Nayo jeetegereze!

كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟

Akole atya owange ggwe **أَبُو هُرَيْرَةَ؟**

أَبُو هُرَيْرَةَ naye n'agamba nti banaabe bombi.

أَبْنُ عَثِيمٍ n'agamba nti ensonga ya Nabbi teyali ku mazzi gano, ensonga ya Nabbi yali ku kunaaba kw'abafumbo nga banaaba bombi, awo w'ewaali ensonga, kubanga ne أَبُو هُرَيْرَةَ b'amubuuza nti bakole batya owange ggwe أَبُو هُرَيْرَةَ?

Yagamba: banaabe bombi.

Sso ekigambo ekyo kigambo kitunuuliremu naawe olabe!_, olabe entegeera y'obujulizi eyo eri deep, omusajja oyo اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يالي yamuwa "فَقَهُ", nga teweerabidde hadith ya مُعَاوِيَةَ

"مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهِهُ فِي الدِّينِ"

Omusajja Allah yali yamuwa!, بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ.

Bannange hadith jetubaddeko olwa leero, oba zetubaddeko olwa leero, zibadde hadith ssatu;

Hadithg ya مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَمْرِيُّ nga agamba nti yawulira okuva ku musajja eyawangaala n'Omubaka

"أَرْبَعٌ سِنِينَ، كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ"

Nga agamba nti: نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

Oba "وَأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ"

Then hadith namba bbbri, hadith ya ابْنُ عَبَّاسٍ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ: ابْنُ عَبَّاسٍ

Hadith namba ssatu;

"اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا"

أَوْ "لِيَتَوَضَّأَ"

Omukyaala n'amugamba nti: فَقَالَتْ: "إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ!"

Nabbi n'amugamba nti: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنَبُ"

Waliwo (الْفِيَّةُ) ya إِمَامُ وَوَلِيدُ بْنُ رَاشِدِ السَّعِيدَانَ

Muyita "إِمَامُ" lwa nsonga, وَوَلِيدُ ابْنِ رَاشِدِ السَّعِيدَانَ حَفِظَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, mu (مَنْظُومَةٌ) ye, oba (الْفِيَّةُ) ye eyo yagamba nti:

۱۰ وَالْأَصْلُ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ يَأْتِي
۱۱ فَاحْكُمْ بِهَذَا الْأَصْلِ دُونَ تَرَدُّدٍ
۱۲ وَالْمَاءُ إِنْ غَمَسَتْ بِهِ يَدُ قَائِمٍ
إِلَّا يَنْصُرْ وَاضِحَ التَّبَيَّانِ
فَعَلَيْهِ ذَلَّتْ شِرْعَةُ الرَّحْمَنِ
مِنْ نَوْمٍ لَيْلٍ مُذْهِبِ الْأَذْهَانَ

۱۳ مِنْ قَبْلِ غَسَلٍ، أَوْ خَلَّتْ بِقَلِيلِهِ
أَنْتَى لِطَهْرِ كَامِلِ الْأَرْكَانِ

Oba amazzi omukyaala geyeeyawulidde nago nga amazzi ago gabadde matono, aganaabyeeko bw'omu, gabadde matono, newabaawo amazzi agasigalawo.

أَوْ خَلَّتْ بِقَلِيلِهِ أَنْتَى

Wulira obukwakkulizo;

خَلَّتْ

: Ako kamu

بِقَلِيلِهِ

: Obwo bubiri

أَنْتَى

: Ako kaakusatu

لِطَهْرٍ كَامِلٍ الْأَرْكَانَ

Kaakuna, mukyaala yeeyawulidde n'amazzi ago, mukyaala ate yeeyawulidde nago, ate nga gabadde matono, obutono bw'amazzi twawogerako dda.

Abamanyi b'ayawukana mu butono bw'amazzi;

- ❖ Abamu bagamba nti kasita gaba nga gali wansi wa (قَلْبُ) bbiri, ago geemazzi amatono.
- ❖ Abalala nebagamba nti kasita gaba nga wegabeera mu kyombo nga wetukinyeenya oludda terwenyeenya side endala, ky'ekigambo ky'aba حَنْفِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Abu haniifah kunsonga eno], ago geemazzi amangi, naye bwekiba nga bwetunyeenya ekyombo مَثَلًا [ky'akulabirako] nga amazzi gagenda kwenyeenya gonna nga bwegali mu kyombo ekyo, ago mazzi matono.

Kati bagamba nti bw'aba nga mukyaala yanaabye mu mazzi ago nga yeeyawulidde mu kuganaabamu nga gabadde matono tegaweza (قَلْبُ) bbiri, oba nga bwegabeera mu kyombo netukinyeenya amazzi gonna gagenda kwenyeenya

لِطَهْرٍ كَامِلٍ الْأَرْكَانَ

Nga ate abadde yeetukuzisizza n'amazzi ago olweetukuza olujjuvu ku biyongo byonna, nga lweetukuza lujjuvu ebiyungo byonna, amakulu janaba nga anaabye omubiri gwonna newabaawo amazzi agafikkawo mu kyombo, ago amazzi abamanyi abamu nga bwetulabye bagamba nti ssi matuufu gaakuba ntinno omuntu yeetukuza nago, ky'ekigambo ky'aba ظَاهِرِيَّةُ [Abagoberera endaba ya Imaam Dauda ibn ali ne Ibn Hazm ku nsonga eno] n'abamu kubagoberezi b'aba حَنَابِلَةٌ

[Abagoberera endaba ya Imaam Ahmad bun Hambal ku nsonga eno] nga bwetulabye, بَارِكَ اللهُ
فيكم.

Ate abamanyi abalala nebagamba nti kitamwa okweetukuza n'amazzi ago, ky'ekigambo ky'aba
مَالِكِيَّةً [Abagoberera endaba ya Imaam Malik ku nsonga eno], بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ, nga bwetulabye.

Naye ekigambo ekituufu kweekuba nti ago amazzi gasigala matukuzu, era agatukuza ekintu ekirala,
anti omuwandiisi wansi yafundikira agamba ntinno;

فَالْحَقُّ فِي ذَا الْمَاءِ بِالْبُرْهَانِ

١٨ هُوَ مَا تَقَرَّرَ سَابِقاً فِي أَصْلِنَا وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ مِنْ حَرَّانٍ (٢)

Ky'ekigambo kya شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ nti amazzi ago gasigala matukuvu era nga gasobola
n'okutukuza ekintu ekirala newankubadde nga gafisseewo luvannyuma lwa kuba ntinno omukyaala
yeetukuzzaako n'amazzi ago, ky'ekigambo ekituufu mu ((مَسْأَلَةٌ)).

وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمَ
